

# النُّور

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

یہ سورہ ہے جسکو ہم نے نازل کیا اور فرض کر دیا  
اس (کے احکام) کو اور نازل کیں ہم نے اسمیں  
آیتیں جو واضح ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا  
فِيهَا آيَةً بَيِّنَاتٍ لِّعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

زانی عورت اور زانی مرد کوڑے مارو ہر ایک کو  
دونوں میں سے سو کوڑے۔ اور نہ دامن گیر ہو  
تم کو ان دونوں پر ترس اللہ کے دین کے  
معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز  
آخر پر۔ اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے انکی سزا کو  
ایک جماعت مسلمانوں میں سے۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا  
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ  
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت سے یا

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ

مشرك عورت سے۔ اور زانی عورت نہیں  
نکاح کرتی مگر زانی مرد سے یا مشرك مرد سے۔ اور  
حرام کر دیا گیا ہے یہ مومنوں پر۔

مُشْرِكَةٌ وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحَهَا إِلَّا  
زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاکدامن عورتوں پر  
پھر نہ لائیں چار گواہ تو کوڑے مارو انکو اسی  
کوڑے اور نہ قبول کرو انکی شہادت کبھی۔ اور  
یہی میں جو فاسق ہیں۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ  
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً  
أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

سوائے انکے جو توبہ کر لیں اسکے بعد اور اصلاح  
کر لیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

اور جو لوگ تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر اور نہ  
ہوں انکے گواہ سوائے خود کے تو شہادت یہ  
ہے ہر ایک کی کہ چار مرتبہ قسم کھائے اللہ کی  
کہ بیشک وہ (مرد) ہے سچ بولنے والوں میں۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ  
يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ  
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ  
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

اور پانچویں مرتبہ یہ کہ لعنت ہو اللہ کی اس  
(مرد) پر اگر ہوا وہ جھوٹوں میں سے۔

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ  
إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

اور ٹل جائیگی اس (عورت) سے سزا اس طرح  
کہ وہ گواہی دے چار مرتبہ قسم اٹھا کر اللہ کی کہ  
بیشک وہ (مرد) ہے جھوٹ بولنے والوں میں۔

وَيَدْرُؤا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ  
أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  
الْكَذِبِينَ ﴿٨﴾

اور پانچویں مرتبہ یہ کہ غضب نازل ہو اللہ کا  
اس (عورت) پر اگر وہ ہوا سچ بولنے والوں میں۔

وَالْحَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا  
إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اسکی رحمت  
اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کر نیوالا ہے حکیم ہے۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ  
وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

یقیناً وہ لوگ جو گھڑ لائے ہیں یہ بہتان ایک  
جماعت ہے تم ہی میں سے۔ نہ سمجھنا تم اسکو  
برا اپنے حق میں۔ بلکہ وہ خیر ہے تمہارے  
لئے۔ ہر ایک فرد کے لئے ہے (وبال) ان  
میں سے جو کچھ کمایا اس نے گناہ میں سے۔  
اور وہ جس نے اٹھایا ہے اس (بہتان) کا بڑا  
(بوجھ) انہیں سے اسکے لئے ہے بڑا عذاب۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ  
مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ  
هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا  
اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى  
كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

کیوں نہ جب تم نے سنی وہ بات تو کیا گمان  
مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے

لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ  
وَالْمُؤْمِنَاتُ بِنَفْسِهِمْ خَيْرًا وَ قَالُوا

هَذَا اِنْفِكُ مُبِينٌ ﴿١٢﴾

بارے میں نیک۔ اور کہتے یہ ہے کھلا بہتان۔

لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ  
فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ  
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

کیوں نہ لائے یہ اس (بہتان) پر چار گواہ۔ تو  
جب نہیں یہ لاسکے گواہ۔ تو یہ لوگ اللہ کے  
نزدیک خود ہی جھوٹے ہیں۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور  
اسکی رحمت دنیا میں اور آخرت میں تو ضرور آلیتا  
تم کو اسکی وجہ سے منہمک تھے تم جس میں بڑا  
سخت عذاب۔

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِكُمْ وَ تَقُولُونَ  
بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ  
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ  
عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

جب تم ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے  
اس کا اپنی زبانوں سے اور کہتے تھے اپنے  
مومنوں سے ایسی بات نہ تھا تمکو جس کا علم اور  
تم خیال کرتے تھے اسے ہلکی بات۔ حالانکہ  
وہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات تھی۔

وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا  
يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا  
سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

اور کیوں نہ جب تم نے سنی تھی وہ بات تو  
کہتے کہ نہیں زیب دیتا ہمیں کہ کہیں ہم ایسی  
بات۔ تو پاک ہے یہ تو بہتان ہے بہت بڑا۔

نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ کہ دہراؤ تم ایسی  
بات ہرگز کبھی اگر تم ہو ایمان والے۔

يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا  
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

اور کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لئے  
آیتیں۔ اور اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔

وَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

یقیناً جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی  
ان میں جو ایمان والے ہیں انکے لئے ہو گا  
عذاب دکھ دینے والا۔ دنیا میں اور آخرت میں۔  
اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ  
فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور  
اسکی رحمت (تو تم تباہ ہو جاتے) اور بیشک  
اللہ نہایت مہربان ہے رحیم ہے

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ  
وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہ چلنا نقش قدم پر  
شیطان کے۔ اور جو چلے گا نقش قدم پر شیطان  
کے تو یقیناً وہ اسے حکم دیگا بے حیائی کا اور  
برے کاموں کا۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم  
پر اور اسکی رحمت تو نہ پاک ہو سکتا تھا تم میں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا

کوئی ایک کبھی بھی۔ لیکن اللہ پاک کر دیتا ہے  
جسکو چاہتا ہے اور اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔

وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُزَيِّىٰ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ  
سَمِىْعٌ عَلِىْمٌ ﴿٢١﴾

اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل تم میں اور  
صاحب مال کہ (نہیں) دیں گے رشتہ داروں  
اور محتاجوں اور ہجرت کرنیوالوں کو اللہ کے  
راستے کی۔ اور انکو چاہیے کہ معاف کر دیں اور  
درگزر کریں۔ کیا نہیں پسند کرتے تم کہ معاف  
کردے اللہ تمکو۔ اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

وَ لَا يَآتِلِ اَوْلَآءِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ  
وَ السَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اَوْلِيَ الْقُرْبٰى  
وَ الْمَسْكِيْنَ وَ الْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ  
اللّٰهِ وَ لِيَعْفُوْا وَ لِيَصْفَحُوْا اِلَّا  
مُحِبُّوْنَ اَنْ يَّعْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ اللّٰهُ  
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾

یقیناً جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاکدامن (برے  
کاموں سے) بے خبر ایمان والی عورتوں پر۔  
لعنت کئے گئے وہ دنیا میں اور آخرت میں اور  
انکے لئے ہو گا سخت عذاب۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَّرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ  
الْغٰفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوْا فِي الدُّنْيَا  
وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾

جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی  
زبانیں اور انکے ہاتھ اور انکے پیر اس پر جو کچھ وہ  
کیا کرتے تھے۔

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ  
وَ اَيْدِيُهُمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا  
يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾

اس دن پورا دیدے گا اللہ انکا بدلہ حق کے

يَوْمَ يُّؤَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ

ساتھ اور انکو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی ہے  
حق کو ظاہر کرنے والا۔

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ  
الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

ناپاک عورتیں میں ناپاک مردوں کے لئے اور  
ناپاک مرد میں ناپاک عورتوں کے لئے۔ اور پاک  
عورتیں میں پاک مردوں کے لئے اور پاک مرد  
میں پاک عورتوں کے لئے۔ یہ لوگ مبرا میں  
ان (جھوٹی باتوں) سے جو وہ کہتے ہیں۔ ان  
کے لئے مغفرت اور عمدہ رزق ہے۔

الْحَبِيثَاتِ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ  
لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ  
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ  
مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہ داخل ہوا کرو  
(دوسروں کے) گھروں میں سوائے اپنے  
گھروں کے جب تک کہ (نہ) اجازت لے لو اور  
سلام کر لو انکے گھر والوں کو۔ یہ بہتر ہے  
تمہارے حق میں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا  
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا  
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ  
لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

پھر اگر نہ پاؤ تم اس میں کسی کو تو مت داخل ہو  
اس میں جب تک نہ اجازت دی جائے تمکو۔  
اور اگر یہ کہا جائے تم سے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ  
جایا کرو۔ یہ بڑی پاکیزگی ہے تمہارے لئے۔ اور  
اللہ وہ جو تم کرتے ہو جانتا ہے۔

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا  
تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ  
لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْهَى  
لَكُمْ وَاللَّهُ بِهِمَاتَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ ﴿٢٨﴾

نہیں تم پر گناہ کہ تم داخل ہو ایسے گھروں  
میں جن میں کوئی نہ بستا ہو۔ جن میں متاع ہو  
تمہاری۔ اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر  
کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا  
بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ  
لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا  
تَكْتُمُونَ ﴿٢٦﴾

کھدو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھا کریں اپنی  
نظریں اور حفاظت کیا کریں اپنی شرمگاہوں کی۔  
یہ زیادہ پاکیزہ ہے انکے لئے۔ بیشک اللہ باخبر  
ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ  
أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  
ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٧﴾

اور کھدو مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھا کریں اپنی  
نظریں اور حفاظت کیا کریں اپنی شرمگاہوں کی  
اور نہ ظاہر ہونے دیا کریں اپنی زینت کو مگر جو  
کھلی رہتی ہو اس میں سے۔ اور اوڑھے رہا  
کریں اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر۔ اور نہ ظاہر  
ہونے دیں اپنی زینت کو سوائے اپنے شوہروں  
یا اپنے باپوں یا اپنے شوہروں کے باپوں یا  
اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ  
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا  
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي



بھائیوں یا اپنے بھتیجیوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں یا اپنی لونڈی غلاموں کے یا ان خدام کے جو غیر خواہش مند ہوں عورتوں کے مردوں میں سے یا وہ لڑکے جو نہ واقف ہوں عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے۔ اور نہ مارکر چلیں اپنے پاؤں کہ ظاہر ہو جائے جو پوشیدہ ہو کوئی انکی نیت۔ اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

أَخْوَاهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَلَكَتٍ  
أَيْمَانَهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ  
مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ  
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا  
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا  
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى  
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

اور نکاح کر دیا کرو بیوہ عورتوں کے اپنوں میں سے۔ اور جو نیک ہوں اپنے غلاموں میں اور اپنی لونڈیوں میں سے۔ اگر وہ ہوں گے مفلس تو غنی کر دے گا انکو اللہ اپنے فضل سے۔ اور اللہ ہے بہت وسعت والا جاننے والا۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ  
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٧﴾

اور پاکدامنی کو اختیار کئے رہیں وہ لوگ نہ مقدر ہو جنکو نکاح کا یہاں تک کہ غنی کر دے انکو اللہ اپنے فضل سے۔ اور وہ جو چاہیں مکاتبت (معاہدہ آزادی) ان میں سے جو تمہاری غلامی

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا  
حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ

میں میں تو مکاتبت کر لو ان سے اگر تم پاؤ ان  
 میں صلاحیت۔ اور دید وانکو اس مال میں سے  
 اللہ نے جو تمکو بخشا ہے۔ اور نہ مجبور کرنا اپنی  
 باندیوں کو بدکاری پر اگر چاہیں وہ پاکدامن رہنا کہ  
 تم حاصل کرو فوائد دنیاوی زندگی کے۔ اور جو  
 انکو مجبور کرے گا تو بیشک اللہ اس کے بعد کہ وہ  
 مجبور کی گئی ہیں بخشے والا ہے مہربان ہے۔

فِيهِمْ خَيْرًا<sup>ط</sup> وَأَتَوْهُمْ<sup>ط</sup> مِّن مَّالِ اللَّهِ  
 الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ  
 عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا  
 لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ  
 يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

اور یقیناً نازل کی ہیں ہم نے تمہاری طرف  
 واضح آیتیں اور مثالیں ان لوگوں کی جو گذر چکے  
 ہیں تم سے پہلے اور نصیحت منقہوں کے لئے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ  
 وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ  
 وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ<sup>ع</sup> ﴿٣٤﴾

اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثال اسکے  
 نور کی ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے جس میں  
 ایک چراغ ہے۔ چراغ ایک قندیل میں  
 ہے۔ قندیل ایسی ہو جیسے ایک ستارہ موتی کا  
 سا چمکتا ہوا۔ روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک  
 درخت سے جو زیتون ہے۔ نہ شرقی ہے اور نہ  
 غربی ہے۔ قریب ہے اس کا تیل بھرنے  
 اٹھنے کو خواہ نہ چھوئے اسے آگ۔ روشنی پر

اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ  
 نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  
 الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا  
 كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ  
 مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ  
 يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ

روشنی ہے۔ ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور سے جسکو چاہتا ہے۔ اور بیان فرماتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لئے۔ اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

(وہ قنیل) ان گھروں میں ہے علم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کئے جائیں اور ذکر کیا جائے جن میں اس کے نام کا۔ تسبیح کرتے ہیں وہ اسکی ان میں صبح اور شام۔

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾

ایسے لوگ نہیں غافل کرتی جسکو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ ڈرتے ہیں وہ اس دن سے الٹ جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں۔

رِبَّالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

تاکہ بدلہ دے انکو اللہ عمدہ اس سے جو اعمال انہوں نے کئے اور مزید عطا فرمائے اپنے فضل سے۔ اور اللہ رزق دیتا ہے جسکو چاہتا ہے بے حساب۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکے اعمال جیسے کہ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ كَسْرَابٌ

سراب صحرا میں سمجھے اسے پیسا جیسے پانی۔  
 یہاں تک کہ جب آئے اسکے پاس تو نہ پائے  
 اسے کچھ بھی۔ اور موجود پائے اللہ کو اپنے  
 پاس تو وہ پورا پورا چکا دے اسے اس کا  
 حساب۔ اور اللہ ہے جلد حساب کرنے والا۔

بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ  
 إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ  
 اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ  
 سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

یا جیسے اندھیرے گہرے سمندر میں چڑھی چلی  
 آتی ہو جس پر موج اور اسکے اوپر ایک موج اور  
 اسکے اوپر بادل۔ اندھیرے میں ایک کے  
 اوپر ایک۔ جب باہر نکالے اپنا ہاتھ تو نہ کچھ  
 دیکھ سکے اسکو۔ اور وہ کہ نہ بنائے اللہ جس کے  
 لئے روشنی تو نہیں اسکے لئے کوئی روشنی۔

أَوْ كَظُلْمٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ  
 مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ  
 سَحَابٌ ظَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ  
 بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ  
 يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا  
 فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ﴿٣٧﴾

کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو  
 ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور پرندے  
 پر پھیلائے ہوئے۔ ہر ایک واقف ہے اپنی  
 نماز اور اپنی تسبیح سے۔ اور اللہ کو معلوم ہے جو  
 کچھ وہ کرتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ  
 كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٨﴾

اور اللہ کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں اور  
زمین کی۔ اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ  
وَ اِلٰى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾

کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ ہی چلاتا ہے بادلوں  
کو پھر ملا دیتا ہے انکو آپس میں۔ پھر کر دیتا ہے  
انکو تہ بہ تہ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے  
قطرے نکلتے ہیں انکے درمیان میں سے۔ اور  
وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پہاڑ (جیسے بادل)  
جن میں اولے ہیں۔ پھر برسا دیتا ہے ان سے  
جس پر چاہتا ہے اور ہٹا رکھتا ہے جس پر سے وہ  
چاہتا ہے۔ قریب ہے چمک اسکی بجلی کی  
اچک لے جائے آنکھوں کی بینائی۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزِجُ سَحَابًا ثُمَّ  
يُوَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرٰى  
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهٖ وَيُنَزَّلُ مِنْ  
السَّمٰوٰءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ  
فَيَصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَصْرِفُهٗ  
عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ  
يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

بدلتا رہتا ہے اللہ ہی رات اور دن کو۔ یقیناً اس  
میں بڑی عبرت ہے اہل بصارت کے لئے۔

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ اِنَّ فِيْ  
ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے۔ تو  
ان میں سے وہ بھی ہے جو چلتا ہے اپنے  
پیٹ کے بل۔ اور ان میں سے وہ بھی ہے

وَ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّآءٍ  
فَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ  
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ  
يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

جو چلتا ہے دو پاؤں پر اور ان میں سے وہ بھی  
ہے جو چلتا ہے چار پر۔ پیدا کرتا ہے اللہ جو  
چاہتا ہے۔ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَ اللَّهُ  
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ  
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

بیشک نازل کی ہیں ہم نے روشن آیتیں۔ اور  
اللہ ہدایت دیتا ہے جسکو چاہتا ہے سیدھے  
راستے کی طرف۔

وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ  
وَ أَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ  
بَعْدَ ذَلِكَ وَ مَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

اور کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور رسول  
پر اور اطاعت کی ہم نے۔ پھر منہ موڑ لیتا ہے  
ایک فریق ان میں سے اسکے بعد۔ اور نہیں  
ہیں یہ لوگ صاحب ایمان۔

وَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ  
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ  
مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

اور جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اسکے  
رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے  
درمیان تو ایک فریق انہیں سے پھر جاتا ہے۔

وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ  
مُدْعِينَ ﴿٤٩﴾

اور اگر ملتا ہو انکے لئے حق تو چلے آتے ہیں  
اسکی طرف اطاعت شعار ہو کر۔

کیا انکے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا انکو یہ خوف ہے کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول۔ بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

دراصل یہ بات ہے مومنوں کی کہ جب بلائے جائیں اللہ کی طرف اور اسکے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان تو کہیں کہ سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ اور یہ لوگ ہی ہیں فلاح پانے والے۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اسکے رسول کی اور ڈرے گا اللہ سے اور اسکا تقویٰ اختیار کرے گا تو یہ لوگ ہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑی سخت قسمیں کہ اگر تم انکو حکم دو تو ضرور یہ نکل کھڑے ہونگے۔ کہدو کہ مت قسمیں کھاؤ۔ اطاعت پسندیدہ ہے۔ بیشک اللہ بانبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

کھدو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ پھر اگر تم منہ موڑو گے تو صرف اس پر ذمہ داری ہے اسکی جو اسپر ڈالی گئی۔ اور تم پر ذمہ داری ہے اسکی جو تم پر ڈالی گئی۔ اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تو ہدایت پا لو گے۔ اور نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا کھول کر۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ  
وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ  
تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ  
الْمُبِينُ

وعدہ ہے اللہ کا ان سے جو ایمان لائے تم میں سے اور کرتے رہے نیک اعمال کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انکو زمین میں جس طرح خلیفہ بنایا تھا لوگوں کو ان سے پہلے۔ اور ضرور قائم کرے گا ان کے لئے ان کے دین کو جسے پسند کیا ہے اس نے ان کے لئے۔ اور ضرور بدل دیگا ان کے لئے انکی حالت خوف کو امن سے۔ وہ عبادت کریں گے میری۔ نہ شریک بنائیں گے میرے ساتھ کسی چیز کو۔ اور جو کفر کرے اسکے بعد تو یہ لوگ ہی ہیں فاسق۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَ لِيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو

وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ



أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ  
فِي الْأَرْضِ وَ مَاؤِهُمْ النَّارُ  
وَلِبئسَ الْمَصِيرُ

نہ خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جہنوں نے کفر کیا  
مغلوب کر دیں گے ہلکوزمین میں۔ اور ان کا  
ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَذِنَكُمْ  
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ  
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  
مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ  
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن  
بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ  
لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ  
جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ  
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

اے وہ لوگو جو ایمان لائے تم سے اجازت لیا  
کریں وہ جو تمہارے باندی غلام ہیں اور وہ جو  
نہیں پہنچے بلوغ کو تم میں سے تین اوقات  
میں۔ نماز فجر سے پہلے اور جب تم اتار دیتے ہو  
اپنے کپڑے دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز  
کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردے کے  
ہیں۔ نہیں تم پر اور نہ ان پر کچھ گناہ ان  
اوقات کے بعد۔ آتے جاتے رہتے ہو تم  
ایک دوسرے کے پاس۔ اسی طرح کھول کر  
بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لئے اپنی آیتیں۔  
اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔



اور جب پہنچ جائیں بچے تمہارے بلوغ کو تو چاہیے انکو کہ اجازت لیں جس طرح اجازت حاصل کرتے رہے ہیں لوگ ان سے پہلے۔ اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں۔ اور اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

اور بڑی عمر کی عورتوں میں سے جنکو نہیں توقع نکاح کی تو نہیں ان پر کچھ گناہ کہ وہ اتار رکھیں اپنے کپڑے بشرطیکہ نہ ظاہر کریں اپنی نینت۔ اور یہ کہ وہ رہیں حیا دار تو بہتر ہے ان کے حق میں۔ اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

نہیں ہے اندھے پر کچھ حرج اور نہ لنگڑے پر کچھ حرج اور نہ بیمار پر کچھ حرج اور نہ خود تم پر کہ تم کھانا کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ

گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالائوں کے گھروں سے یا (ان گھروں سے) جنگی کنبیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں (کے گھروں) سے۔ نہیں تم پر کچھ گناہ کہ کھانا کھاؤ تم سب مل کر یا جدا جدا۔ پھر جب جایا کرو گھروں میں تو سلام کیا کرو اپنے لوگوں کو یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مبارک پاکیزہ۔ اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لئے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو۔

أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

صرف مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اسکے رسول پر اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایسے کام کے لئے جو اجتماعی ہو تو نہیں جاتے جب تک نہ اجازت لیں اس سے۔ یقیناً جو لوگ اجازت حاصل کرتے ہیں تم سے وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اسکے رسول پر۔ سو جب یہ اجازت مانگا کریں تم سے

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ

اپنے کسی کام کے لئے تو اجازت دے دیا کرو  
جسے چاہا کرو ان میں سے اور دعائے مغفرت  
کرو ان کے لئے اللہ سے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا  
ہے مہربان ہے۔

شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

نہ سمجھ بیٹھنا رسول کے پکارنے اپنے درمیان  
جیسا پکارتے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کو  
بیشک معلوم ہیں اللہ کو وہ لوگ جو کھسک  
جاتے ہیں تم میں سے اڑ لیکر۔ تو ڈرنا چاہیے  
انکو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اسکے حکم کی کہ  
ایسا نہ ہو کہ آپڑے ان پر کوئی آفت یا آپڑے  
ان پر عذاب دکھ دینے والا۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ  
كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ  
اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا  
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ  
أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

خبردار رہو بیشک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے  
آسمانوں میں اور زمین میں۔ یقیناً وہ جانتا ہے  
اس کو جس پر تم ہو۔ اور جس دن لوٹائے جائیں  
گے وہ اسکی طرف تو بتا دے گا ان کو جو کچھ وہ  
کرتے رہے۔ اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ  
عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ  
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

